



سوال

ہماری مسجد میں دعاء اور اجتماع کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا وہ اس طرح کہ قرآن مجید کے سپارے لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور ہر شخص وہاں سپارہ پڑھتا ہے حتیٰ کہ پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے پھر وہ لوگ دعاء کسی معین مقصد اور غرض کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں مثلاً امتحان وغیرہ میں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے اور شریعت سے ثابت ہے؟ برائے مہربانی کتاب و سنت اور سلف کے اجماع سے دلائل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں

جواب

الحمد للہ

یہ سوال دو مسئلوں پر مشتمل ہے :

پہلا مسئلہ :

تلاوت قرآن کے لیے اجتماع کرنا وہ اس طرح کہ ہر شخص قرآن مجید کا ایک سپارہ پڑھے حتیٰ کہ سارا قرآن ختم ہو اور ہر ایک کے پاس جو سپارہ ہے وہ مکمل کر لے اس کا جواب مستقل فتاویٰ کمیٹی کے درج ذیل بیان میں ہے :

"اول :

تلاوت قرآن کے لیے جمع ہونا اور اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا کہ ایک شخص پڑھے اور دوسرے سنیں اور جو انہوں نے پڑھا ہے اسے ایک دوسرے کو سنائیں اور اس کے معانی پر سوچ و بچار کریں یہ مشروع اور اللہ کا قرب ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے

اس کی دلیل مسلم شریف کی درج ذیل حدیث ہے :

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"جو لوگ اللہ کے گھروں (مساجد) میں کسی گھر (مسجد) میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور اسے آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں"

اسے مسلم اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے

اور قرآن مجید ختم کرنے کے بعد دعا کرنا بھی مشروع ہے لیکن پر ہمیشگی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی معین صیغے اور کلمات کی پابندی کرنی چاہیے کہ یہ سنت محسوس ہو، کیونکہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں لیکن بعض صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے

اور اسی طرح اس تلاوت میں حاضر افراد کو کھانے کی دعوت دینے میں بھی کوئی حرج نہیں جبکہ اسے قرآت کے بعد عادت نہ بنالیا جائے



دوم:

اس اجتماع میں حاضر افراد میں سے ہر ایک شخص کو ایک پارہ پڑھنے کے لیے دینا سے قرآن ختم ہونا شمار نہیں کیا جائیگا

اور ان کا تبرک کے مقصد سے قرآن مجید پڑھنا کسی کو کوتاہی ہے، کیونکہ قرأت کا مقصد تو اللہ کا قرب اور حفظ قرآن اور اس کے معانی و احکام پر غور و فکر اور تہجد اور اس پر عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب کا حصول اور زبان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر تیار کرنا اور سکھانا ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایک فوائد ہیں

اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے "۱۱ھ

دیکھیں: فتاویٰ البینۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء (480/2).

دوسرا مسئلہ:

یہ اعتقاد رکھنا کہ اس فعل (تلاوت قرآن کے لیے سوال میں مذکورہ طریقہ پر جمع ہونے) میں دعا کی قبولیت میں کوئی اثر پایا جاتا ہے، اس اعتقاد کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور یہ غیر مشروع ہے جائز نہیں، اور دعا کی قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں جو معروف و معلوم ہیں، اور اسی طرح دعا کی عدم قبولیت یعنی دعا کی قبولیت میں مانع کے اسباب بھی معروف ہیں اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کرے اور دعا کی عدم قبولیت کے اسباب سے اجتناب کرے، اور اپنے پروردگار کے ساتھ لہجھاظن و گمان رکھے اور بندے کا رب اس کے گمان کے مطابق ہے

تبیہ:

دلیل تو اس سے طلب کی جاتی ہے جو کوئی شرعی امور میں سے شرعی امر ثابت کرتا ہے، وگرنہ عبادات میں اصل ممانعت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی مشروعیت کی دلیل مل جائے، اہل علم کا فیصلہ یہی ہے، اس بنا پر اس اعتقاد کے عدم مشروع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی

واللہ اعلم۔